


درود

نگهت هاشمی



① اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ
عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰى آلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.
اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ
عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰى آلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

”یا اللہ! محمد ﷺ اور آل محمد ﷺ پر اسی طرح رحمت فرما جس طرح تو نے
ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمت فرمائی۔ تعریف اور بزرگی تیرے ہی لیے
ہے۔ یا اللہ! محمد ﷺ اور آل محمد ﷺ پر اسی طرح برکت نازل فرما جس
طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام آل ابراہیم علیہم السلام پر برکت نازل فرمائی۔ تو بزرگ
ہے اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔“ (صحیح البخاری: 3370)

② اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا
صَلَّيْتَ عَلٰى آلِ اِبْرٰهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ
مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى آلِ اِبْرٰهِيْمَ فِي الْعٰلَمِيْنَ اِنَّكَ
حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

”یا اللہ! تمام جہانوں میں محمد ﷺ اور آل محمد ﷺ پر اسی طرح رحمت
نازل فرما جس طرح آل ابراہیم علیہم السلام پر رحمت نازل فرمائی، محمد ﷺ اور آل
محمد ﷺ پر اسی طرح برکت نازل فرما جس طرح تو نے آل ابراہیم پر
برکت نازل فرمائی۔ یقیناً تو قابل تعریف بزرگ ہے۔“ (مسلم: 907)

③ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ
 كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ
 الْاُمِّيِّ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

”یا اللہ! امی نبی محمد ﷺ اور آل محمد ﷺ پر اسی طرح رحمت نازل فرما
 جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہم السلام پر رحمت نازل فرمائی اور
 امی نبی محمد ﷺ پر اسی طرح برکت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام
 پر برکت نازل فرمائی۔ تو یقیناً اپنی ذات میں آپ محمود اور بزرگ ہے۔“
 (مسند أحمد: 4/119)

④ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَاَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا
 صَلَّيْتَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَاَزْوَاجِهِ
 وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

”اے اللہ! محمد ﷺ اور ان کی ازواج اور ان کی اولاد پر اپنی رحمت
 نازل فرما جیسا کہ تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم علیہم السلام پر رحمت نازل کی اور
 محمد ﷺ اور ان کی ازواج اور ان کی اولاد پر برکت نازل فرما جیسا کہ تو
 نے ابراہیم اور آل ابراہیم علیہم السلام پر برکت نازل فرمائی۔ بلاشبہ تو تعریف کیا
 گیا شان و عظمت والا ہے۔“ (صحیح البخاری: 6360)

⑤ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ كَمَا

صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَ بَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ
مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ.

”اے اللہ! اپنی رحمت نازل فرما محمد ﷺ پر جو تیرے بندے ہیں اور
تیرے رسول ہیں جس طرح تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور
برکت بھیج محمد ﷺ پر اور ان کی آل پر جس طرح برکت بھیجی تو نے
ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر۔“ (بخاری: 6358)

⑥ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ.

اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ.

”اے اللہ! آل محمد ﷺ پر رحمت فرما جیسا کہ تو نے آل ابراہیم علیہ السلام پر
رحمت فرمائی۔ اے اللہ! آل محمد ﷺ پر برکت نازل فرما جیسا کہ تو نے
آل ابراہیم علیہ السلام پر برکت نازل فرمائی۔“

(فضل الصلاة على النبي لإسماعيل بن إسحاق القاضي، ص: 71)

⑦ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا

بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ.

”اے اللہ! محمد ﷺ اور آل محمد ﷺ پر برکت نازل فرما جیسا کہ تو نے
ابراہیم علیہ السلام پر برکت نازل فرمائی۔ یقیناً تو قابل تعریف، بزرگی والا ہے۔“

(مسند أحمد: 1714)

⑧ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ.

”اے اللہ! محمد ﷺ اور آل محمد ﷺ پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔“

(سنن النسائي: 1293)

⑨ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلٰى

سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَ اِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ وَ خَاتَمِ النَّبِيِّنَ

مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَ اِمَامِ الْخَيْرِ وَقَائِدِ الْخَيْرِ

وَ رَسُولِ الرَّحْمَةِ اَللّٰهُمَّ ابْعَثْهُ مُقَامًا مَّحْمُودًا

يَغْبِطُهُ بِهٖ الْاَوْلٰوْنَ وَالْاٰخِرُوْنَ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى

مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ

وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ. اَللّٰهُمَّ بَارِكْ

عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ

وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

”اے اللہ! اپنی رحمت اور برکتیں نازل فرما سید المرسلین، امام المتقین اور

خام النبیین محمد ﷺ پر جو تیرے بندے اور رسول ہیں، خیر کے امام اور

قائد ہیں اور رسول رحمت ہیں۔ اے اللہ! انھیں مقام محمود پر فائز فرما جس

پر پہلے اور بعد والے رشک کریں۔ اے اللہ! محمد ﷺ اور آل محمد ﷺ پر

رحمت نازل فرما جیسا کہ تُو نے ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائی۔ یقیناً تو

قابلِ تعریفِ بزرگی والا ہے۔ اے اللہ! محمد ﷺ اور آلِ محمد ﷺ پر برکت نازل فرما جیسا کہ تُو نے ابراہیم علیہ السلام اور آلِ ابراہیم علیہم السلام پر برکت نازل فرمائی۔ یقیناً تو قابلِ تعریفِ بزرگ ہے۔“ (سنن ابن ماجہ: 906)



سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
 ”جب تک رسول اللہ ﷺ پر درود نہ بھیجا جائے کوئی دعا قبول نہیں کی جاتی۔“
 (السلسلة الأحادیث الصحيحة للألبانی الجزء الخامس: 2035)
 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
 ”جو کوئی مجھ پر درود بھیجنا بھول گیا اس سے جنت کا راستہ چُوک گیا۔“
 (رواہ ابن ماجہ فی سننہ برقمہ: 908)

59-C2 ، فیروز پور لنک روڈ، لاہور
 +92 42 37500048 | 37500049

النور پبلیکیشنز



گراؤنڈ فلور کراچی سٹیج ریزیڈنسی نزد بلاول ہاؤس، کلفٹن بلاک III، کراچی | 121-A فیصل ٹاؤن، ویسٹ کینال روڈ، فیصل آباد
 03364033050, 041-8759191 | 0336-4033034 - 021-35292341-42

For order Call: 0336-4033045 | COD # 0336 4033081

✉ sales@alnoorpk.com 🌐 www.alnoorpk.com | store.alnoorpk.com

📍 Nighat Hashmi, Alnoor International